

برامپٹن نے 2021 صوبائی بجٹ میں ہسپتال کی ایک نئی توسیع اور نگہداشت صحت کی بعد از ثانوی تعلیم کے نئے مواقع کا حصول محفوظ کر لیا

برامپٹن، آن (24 مارچ 2021) – سٹی آف برامپٹن آج بجٹ میں صوبائی حکومت کی جانب سے ولیم آسلر ہیلتھ سسٹم کے پیل میمورینل سنٹر فار انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنس کے ایک نئے حصے کی توسیع کے لیے فنڈ فراہم کرنے اور ریورسن یونیورسٹی کے ساتھ اشتراک میں برامپٹن میں طبی تعلیم کے ایک نئے ادارے کی تیاری کے لیے معاشی معاونت دینے کے اعلان کا خیر مقدم کرتا ہے۔

پیل میمورینل ہاسپٹل کی توسیع

صوبائی بجٹ ولیم آسلر ہیلتھ سسٹم کے پیل میمورینل میں ایک نئے ان پیشنٹ حصے کی تیاری میں معاونت فراہم کرے گا۔ پیل فیز II کی تعبیر آسلر کو برامپٹن سوک ہاسپٹل میں فوری نگہداشت کی خدمات کو بڑھانے میں مدد دے گی اور تکمیل پر علاج کے 90-100 بستروں کی گنجائش کا اضافہ کرے گا۔

آسلر کی تجویز پیل میمورینل میں ارجنٹ کیئر سنٹر کی توسیع کر کے 24/7 خدمات فراہم کرنے کی منظوری کی درخواست کرتی ہے، جس سے کمیونٹی کے لیے گنجائش بڑھ جائے گی۔ اس میں ارجنٹ کیئر سنٹر کو ایک ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ کے طور پر متعین کرنا بھی شامل ہے، جو پیل فیز II کی تکمیل سے پہلے ممکن ہے۔

22 جنوری 2020 کو، سٹی آف برامپٹن نے نگہداشت صحت کی ہنگامی حالت کا اعلان کیا اور اپنی وکالت کی مہم، "فیئر ڈیل فار برامپٹن" کا آغاز کیا – جس کے تحت برامپٹن میں نگہداشت صحت میں موجود خلاء کو پر کرنے کے لیے صوبے سے اضافی فنڈنگ مانگی گئی؛ بشمول پیل میمورینل کا فیز II (24/7 ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ اور اضافی بستر) اور برامپٹن میں نگہداشت صحت کی ایک تیسری سہولت گاہ۔

بعد از ثانوی تعلیم اور مہارتوں کی تربیت کے نئے مواقع

سٹی بعد از ثانوی تعلیم کے مزید مواقع کو خوش آمدید کہتا ہے، بشمول ریورسن یونیورسٹی میں ایک طبی ادارہ۔ یہ اعلان اور پیل میمورینل کی توسیع برامپٹن میں نگہداشت صحت کی ہنگامی حالت کو حل کرنے میں مدد دے گی اور یقینی بنائے گی کہ نگہداشت صحت کے پریکٹیشنرز کی اگلی نسل یہاں شہر میں مقامی طور پر تربیت حاصل کر سکے۔

آج کا صوبائی اعلان سٹی کونسل کی جانب سے ایک برامپٹن یونیورسٹی کے حصول کی کوششوں اور برامپٹن میں ایک پوری یونیورسٹی لانے کے لیے اب تک مکمل شدہ کام کو تقویت بخشتا ہے۔

اسکول اور بچوں کی نگہداشت کی نئی جگہیں

صوبائی بجٹ میں برامپٹن میں انگریزی کا ایک نیا ایلیمینٹری اسکول بھی شامل ہے، جو 850 طلباء کو خدمات فراہم کرے گا اور اس میں بچوں کی نگہداشت کی 73 لائسنس یافتہ جگہیں بھی شامل ہوں گی۔

بجٹ کی وکالت

سٹی آف برامپٹن نے فروری میں صوبے کو 2021 بجٹ کا باضابطہ اندراج جمع کروایا، جس میں کلیدی ترجیحات کی وکالت کی گئی، بشمول: نگہداشت صحت، ٹرانزٹ، انفراسٹرکچر اور بعد از ثانوی تعلیم کے مواقع۔

آج کے بجٹ سے پہلے، سٹی نے کووڈ-19 کی عالمی وباء کے معاشی اثرات سے نمٹنے میں بلدیاتی ٹرانزٹ سسٹمز کی مدد کرنے کے لیے \$15 ملین اضافی فنڈنگ کے اعلان کو خوش آمدید کہا۔ 2021 کے اختتام تک سیف ری سٹارٹ اگریمنٹ کے ذریعے یہ اضافی فنڈنگ ایک مثبت پیش رفت ہے اور سٹی کے 2021 بجٹ کے اندراج کے ذریعے برامپٹن کی جانب سے وکالت کی جانے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ سٹی کووڈ-19 کے دوران فعال رہنے کے جاری اخراجات کو پورا کرنے میں میونسپلٹی کی مدد کے لیے \$500 ملین کے اعلان کے حصے کے طور پر بھی \$14.6 ملین موصول کر چکا ہے۔

اقتباسات

"ہمارے صوبائی شراکت داروں کی جانب سے فنڈنگ کووڈ-19 کی عالمی وباء سے ہماری بحالی کے لیے انتہائی اہم ہے اور ہم آج پیل میموریل کے فیز II کے ذریعے برامپٹن میں دوسرے ہسپتال اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں طبی تعلیم کے ایک نئے ادارے کی تیاری کے اعلان پر بہت مشکور ہیں۔ کووڈ-19 کی عالمی وباء نے برامپٹن کو نگہداشت صحت کے لیے بروقت اور منصفانہ فنڈنگ کی اہم ضرورت کو شدید تر کر دیا ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"کینیڈا کے تیز ترین رفتار سے بڑھتے ہوئے اور نوجوان ترین شہروں میں سے ایک کے طور پر، ہمارے نوجوانوں کے لیے بعد از ثانوی تعلیم کے مواقع بڑھانا اور نگہداشت صحت کی فنڈنگ میں خلاء کو حل کرنا ہماری کلیدی ترجیحات ہیں۔ سٹی کے عملے نے پیل میموریل ہسپتال کے فیز II اور ایک نئے میڈیکل اسکول کے ذریعے بعد از ثانوی تعلیم کے اضافی مواقع کے آج کے اعلان کے حصول کے لیے کونسل کی جانب سے وکالت کو فعال طور پر فروغ دیا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے وقف ہیں کہ برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے صحت و بہبود اور تعلیم کے مواقع حقیقت بنیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"یہ آسٹر اور کمیونٹی کے لیے ایک خوشگوار خبر ہے اور ہم حکومت اونٹاریو بمع مقامی منتخب نمائندگان، کمیونٹی کے اراکین اور دیگر حمایت کاروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے برامپٹن میں نگہداشت صحت اور ہسپتال کی توسیع کو ایک ترجیح رکھا۔ ہماری پیل میموریل سائٹ کی مسلسل توسیع ہمیں اس تیزی سے بڑھتے ہوئے علاقے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہسپتال میں اضافی گنجائش پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے قابل بنائے گی اور آسٹر کے پیل میموریل سنٹر فار انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنس میں پہلے سے فراہم کی جانے والی غیر معمولی نگہداشت کو مزید تقویت بخشنے گی۔"

- ڈاکٹر نوید محمد، پریزیڈنٹ اور چیف میڈیکل اگزیکٹو آفیسر، ویلیم آسٹر ہیلتھ سسٹم

"ریٹرنس اونٹاریو بجٹ میں آج کے اعلان پر بے حد پرجوش ہے، جو برامپٹن میں طبی تعلیم کے ایک نئے ادارے اور برامپٹن کے نگہداشت صحت کے مقامی نظام کی توسیع کا وعدہ کرتا ہے۔ ہم اپنی بعد از ثانوی تعلیم کی پیشکشوں کو بڑھانے اور اگلی نسل کے لیے اعلیٰ معیاری تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے لیے سٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرامید ہیں۔"

- ڈاکٹر محمد لچیمی، پریزیڈنٹ اور وائس چانسلر، ریٹرنس یونیورسٹی

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

گروندر سنگھ
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشنز
سٹی آف برامپٹن

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca